




PRESS RELEASE
For immediate release
July 31, 2026



IFMP Board Approves Relocation to Islamabad to Drive National Financial Literacy Initiative



ISLAMABAD, July 31: The Board of Directors of the Institute of Financial Markets of Pakistan (IFMP) has approved the relocation of the Institute's head office to Islamabad as part of a major strategic transformation aimed at making IFMP the country's premier institution for financial market education, continues professional training, and capacity building. The Institute will, however, maintain a regional office in Karachi.

The Board unanimously elected Dr. Kabir Ahmed Sidhu, Chairman of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), as Chairperson of the IFMP Board, while Mr. Muhammad Ali Farid Khawaja, Commissioner, Securities Market Division (SMD), SECP, joined the Board as SECP's nominee member.


The meeting was attended by Dr. Mubbashar Sadiq, Chief Executive Officer (CEO), IFMP; Mr. Jawad Hashmi, Chief Operating Officer (COO), Pakistan Stock Exchange (PSX); Mr. Shariq Jaffrani, Chief Financial Officer (CFO), Central Depository Company (CDC); Dr. Ahmed Junaid, Dean, Karachi School of Business and Leadership (KSBL); Mr. Shahrukh Usmani, Company Secretary, IFMP; and Mr. Ahmad Javed, Manager Finance, IFMP. Addressing the meeting, Dr. Kabir Ahmed Sidhu said that with 64–67% of Pakistan's population under 30, the country has immense potential to expand financial inclusion, retail investment, entrepreneurship, and employment. He said SECP has set a target of increasing Pakistan's capital market investor base from around 500,000 to 2.5 million, emphasizing that financial literacy and skills development will be fundamental to achieving this objective.

He said IFMP will lead a nationwide financial literacy initiative by taking financial education to schools, universities, and professional communities across Pakistan. The Institute will equip youth and professionals with the knowledge and skills needed to participate in the formal financial sector, strengthen investor confidence, and impart professional courses to develop qualified human capital for the capital market and insurance industries.

Commissioner SECP Mr. Muhammad Ali Farid Khawaja said the Pakistan Stock Exchange must expand its reach across Pakistan, noting that a growing number of new investors are emerging from Punjab and other regions of the country. He said IFMP will significantly expand its mandate by introducing free online financial literacy courses, continuous professional development programmes, certification courses for capital market and insurance intermediaries, and specialized industry training to build a skilled financial services workforce.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contributions of outgoing SECP nominee directors Mr. Osman Syed and Dr. Yasir Mahmood, and acknowledged the dedicated leadership of Mr. Shoaib Javed Hussain during his tenure as Chairperson of the IFMP Board.

آئی ایف ایم پی کا ہیڈ آفس اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری، ملک گیر مالیاتی خواندگی مہم شروع کی جائے گی



اسلام آباد، 31 جولائی: انسٹیٹیوٹ آف فنانشل مارکیٹس پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کے ہیڈ آفس کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ کراچی میں ادارے کا علاقائی دفتری برقرار رکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ ادارے کو مالیاتی تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور استعداد کار میں اضافے کے لیے ملک کا مرکزی ادارہ بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔

ورڈ نے متفقہ طور پر چیئر مین سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو انسٹیٹیوٹ آف فنانشل مارکیٹس پاکستان کا چیئر مین منتخب کیا، جبکہ کمشنر سیکورٹیز اینڈ مارکیٹ ڈویژن، ایس ای سی پی، محمد علی فرید خواجہ نے بورڈ کے رکن کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔

اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر آئی ایف ایم پی ڈاکٹر مبشر صادق، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف آپریٹنگ آفیسر جواد ہاشمی، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر شارق جعفرانی، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کے ڈین ڈاکٹر احمد جنید، کمپنی سیکرٹری شاہ رخ عثمانی اور میجر فنانس احمد جاوید نے بھی شرکت کی۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو نے کہا کہ پاکستان کی 64 سے 67 فیصد آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو مالیاتی شمولیت، سرمایہ کاری، کاروباری مواقع اور روزگار کے فروغ کے لیے ایک بڑی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ای سی پی نے ملک میں کیپیٹل مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کے حصول کے لیے مالیاتی خواندگی اور مہارتوں کا فروغ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ آئی ایف ایم پی ملک بھر میں مالیاتی خواندگی کی مہم شروع کرے گا اور اسکولوں، جامعات اور پیشہ ور افراد تک مالیاتی تعلیم پہنچائے گا۔ ادارہ نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو رسمی مالیاتی نظام، سرمایہ کاری، کیپیٹل مارکیٹ اور انشورنس کے شعبے میں درکار مہارتیں فراہم کرے گا تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے، مالیاتی شعبے کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار ہو اور معیشت کو طویل المدتی سرمایہ میسر آ سکے۔

کمشنر ایس ای سی پی محمد علی فرید خواجہ نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کراچی سے آگے بڑھاتے ہوئے ملک بھر میں فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ نئے سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد پنجاب اور دیگر علاقوں سے سامنے آرہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایف ایم پی مفت آن لائن مالیاتی خواندگی کورسز، مسلسل پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام، کیپیٹل مارکیٹ اور انشورنس کے شعبوں کے لیے سرٹیفیکیشن کورسز اور خصوصی تربیتی پروگرام متعارف کرائے گا، جس سے ملک میں ایک باصلاحیت